

Maulana Azad National Urdu University
MBA III Semester Examination December - 2018
Paper : MMBA331DST : Strategic Financial Management

Total Marks : 70

Time : 3 hours

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/خالی جگہ پُر کرنا/مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ (10 x 1 = 10 Marks)
2. حصہ دوم میں آٹھ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دو سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔ (5 x 6 = 30 Marks)
3. حصہ سوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ (3 x 10 = 30 Marks)

حصہ اول

سوال: 1

- (i) Debt اور Equity کے Mix کو کہتے ہیں۔
(صحیح/غلط)
- (ii) D/E کے تناسب کا معیار 2:3 ہے۔
- (iii) وقت کے ساتھ زر کی قدر میں تبدیلی کو کہتے ہیں۔
(صحیح/غلط)
- (iv) Altman Z-Score ماڈل کو 1965 میں پیش کیا گیا تھا۔
- (v) New Z-Score ماڈل کے حساب سے اگر کمپنی کا Z Score 3.5 ہے تو وہ Safe Zone میں ہے۔
(صحیح/غلط)
- (vi) New Z-Score ماڈل کو شعبہ میں پیش کیا گیا۔
- (vii) کو Reverse Merger کہتے ہیں۔
- (viii) دو غیر یکساں کمپنیوں (Unidentical Companies) کے جوڑ کو کہتے ہیں۔
- (ix) NOI کے نظریہ کو نے پیش کیا۔
- (x) Joint Venture کی ایک مثال ہے۔

حصہ دوم

2. مالیاتی انتظامیہ (Financial Management) اور حکمت عملی والا مالیاتی انتظامیہ (Strategic Financial Management) کو سمجھائیے اور دونوں میں فرق (Difference) کو واضح کیجیے۔
3. Altman Z Score ماڈل کو تفصیل سے بیان کیجیے۔

4. حکمت عملی والے مالیاتی انتظامیہ کے پانچ (5) خصوصی انفعال (Functions) کو بیان کیجیے۔
5. کاروباری فیصلہ سازی میں سرمایہ کی وضع (Capital Structure) بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کی وضاحت کیجیے۔
6. Bankruptcy اور Insolvency کو بیان کیجیے اور دونوں کے درمیان تفریق (Differences) کیجیے۔
7. حسب ذیل معلومات کی مدد سے Financial Indifference Point کو معلوم کیجیے۔ ایک کمپنی Rs. 60,00,000 سے ایک پراجکٹ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے۔ اس کے پاس دو متبادل (Alternate) موجود ہے۔
- Alternate I = 100% Equity
- Alternate II = 60% Debt اور 40% Equity متبادل
8. سود کی شرح 10% ہے اور حصص کی قیمت Rs. 100 ہے۔ Tax کی شرح 40% ہے۔
9. آج کل کے جدید کاروبار میں Joint Ventures ضروری ہے۔ وضاحت کرتے ہوئے اس کی افادیت (Significance) کو بتائیے۔
9. Merger کیا ہے؟ اس کے مختلف اقسام کو بیان کیجیے۔

حصہ سوم

10. حسب ذیل معلومات کی مدد سے فرم کی قدر (Value of Firm) کو معلوم کیجیے۔ (DCF Approach) کو استعمال کیجیے۔
- | | | |
|---------------|---|-----------------------------------|
| Rs. 20,00,000 | = | فروخت (Sales) |
| Rs. 7,00,000 | = | نفع (EBIT) |
| Rs. 1,00,000 | = | سرمایہ اخراجات (Capital Expenses) |
| Rs. 50,000 | = | فرسودگی (Depreciation) |
| 15% of Sales | = | کارسرمایہ (Working Capital) |
| 10% | = | Growth Rate (g) |
| 3 years | = | Time Period |
| 50% | = | Tax Rate |
- $k_e = 15%$ $k_d = 90%$ $k_p = 0$ Debt : Equity = 1:1

11. حسب ذیل معلومات کی مدد سے Z Score کو معلوم کیجیے۔ اور اٹلانٹا آئیر لائن (Atlanta Airlines) کی مالی حالت کو بتائیے۔

کارسرمایہ Working Capital = 10 lakhs
EBIT = 6 lakhs
Total Assets = 32 lakhs
Total Liabilities = 17 lakhs
RE = 12 lakhs
Net Worth = 37 lakhs

12. X Ltd کا Expected Operating Profit Rs. 2,50,000 ہے اور سرمایہ کی لاگت (Cost of Capital) 12% ہے۔ اس کمپنی کے پاس Rs. 3,50,000 Debt ہے جس کی شرح 8% ہے۔ فرم کی قدر (Value of Firm) اور مساوی سرمایہ کی لاگت (Cost of Capital) کو محسوب کیجیے۔

Case I اگر Debt میں Rs. 1,50,000 کا اضافہ ہو۔

Case - II اگر Debt میں 1,50,000 کی کمی ہو۔

(NOI) Net Operating Income کے نظریہ کو استعمال کیجیے۔

13. سرمایہ کی وضع (Capital Structure) کو تفصیل سے سمجھائیے اور اس کے مختلف نظریات (Theories) کو بتائیے۔

14. Z Ltd ایک Telecom کمپنی ہے جو کہ Y Ltd کو حاصل (Acquire) کرنا چاہتی۔ ان دو کمپنیوں کی مالی معلومات اس طرح ہیں:

Particulars	XYZ Ltd	ABC Ltd
Earnings	Rs. 20 Crores	Rs. 7 Crores
No of Shares	Rs. 6 Crores	Rs. 3 Crores
Earnings Per Share	Rs.3	Rs 2.5
P/E	5	4
MPS	Rs. 14	Rs. 7

Merger سے ہونے والے فوائد یا نقصانات (Gain or Loss from Merger) کو معلوم کیجیے اور فرم کی قدر (Value of Firm) کا بھی پتہ لگائیے۔

☆☆☆